

مجلسِ مدنی انعامات کے 26 مدنی پھول



اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

”باپا کے مدنی انعامات ہوں خوب عام“ کے 26 حروف کی نسبت سے مجلس مدنی انعامات کے 26 مدنی پھول

فرامین امیر اہلسنت و امام برکاتہم العالیہ:

﴿مدنی کام ترقی کرے، اخلاقی تربیت ہو اور تقویٰ ملے، اس غرض سے میں نے مدنی انعامات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔﴾
ایک ایک مدنی انعام میں نہ جانے کیا کیا تہتیں کی جاسکتی ہیں ﴿اگر ذمہ دارانِ دعوتِ اسلامی نے خصوصی توجہ فرما کر اس مدنی کام کا پیرا اٹھالیا تو ان شاء اللہ عزوجل ہر طرف سُٹوں اور اچھے عملوں کی بہار آجائے گی۔﴾ مجھے مدنی قافلہ اور مدنی انعامات کی مجالس سے بہت زیادہ پیار ہے۔ ﴿میری دعا ہے جو کوئی اخلاص کے ساتھ مدنی انعامات پر عمل کرے، پروردگار عزوجل اُس کو جنتِ الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔﴾

﴿1﴾ فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہے: نَبِیُّہُ الْمُوْمِنِ خَیْرٌ مِّنْ عَمَلِہٖ۔ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ (المعجم الکبیر للطبرانی، الحدیث: ۵۹۴۲، ج ۶، ص ۱۸۵) اس لیے مجلس مدنی انعامات کا ہر ذمہ دار امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ ”72 مدنی انعامات“ میں سے ”مدنی انعام نمبر 1“ پر عمل کرتے ہوئے نیت کرتا رہے کہ: ”میں اللہ عزوجل کی رضا اور اس کے پیارے حبیب صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خوشنودی کے لیے دعوتِ اسلامی کے شعبے ”مجلس مدنی انعامات“ کا مدنی کام مدنی مرکز کے طریقہ کار کے مطابق کروں گا، ان شاء اللہ عزوجل۔“

﴿2﴾ مجلس مدنی انعامات کا کام مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، مدنی مٹوں، مدنی منیوں، طلبہ و طالبات اور خصوصی اسلامی بھائیوں کو باعمل بنانے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کی ترغیب دلانا ہے۔

﴿3﴾ مجلس مدنی انعامات کے تمام اسلامی بھائی اپنے شعبے کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اس کے لیے ان رسائل ”نیک بننے کا نسخہ، خاموش شہزادہ، قفلِ مدینہ اور ”کتابِ جنت کے طلبگاروں کے لیے مدنی گلدستہ“ (زہ نصیب منہاج العابدین، قوت القلوب اور احیاء العلوم جلد 3) کا مطالعہ بے حد مفید رہے گا نیز ”دارالافتاء اہلسنت“ سے ضرورتاً رہنمائی لیتے رہیں۔

﴿4﴾ حلقہ، علاقہ، ڈویژن اور کامینہ ذمہ دار مدنی انعامات، اپنے ذمہ داران کے ساتھ ذیلی حلقوں کا جدول بنائیں۔ اسلامی بھائیوں کے پاس جا جا کر انفرادی کوشش کر کے مدنی انعامات کا رسالہ پیش کرتے ہوئے، اس پر عمل کرنے کا ذہن بنائیں، فکرِ مدینہ کرنے کا طریقہ سمجھائیں، تیار ہو جانے والوں کے نام لکھیں، ذیلی ذمہ دار کے پاس ذیلی، حلقہ ذمہ دار کے پاس حلقہ اور علاقہ / شہر ذمہ دار کے پاس علاقہ / شہر کے (ذمہ داران و اہل محبت) اسلامی بھائیوں کی فہرست موجود ہو، یہ تمام ذمہ داران، ان اسلامی بھائیوں سے رابطہ رکھیں پھر انہیں فکرِ مدینہ کرنے کی یاد دہانی کرواتے رہیں اور مہینہ ختم ہوتے ہی چاند رات سے مدنی

انعامات کے رسالوں کی وصولی بھی شروع فرمادیں۔

﴿5﴾ ہر سطح کی مشاورت کے نگران جب مختلف مجالس کا مدنی مشورہ کریں تو ان مدنی مشوروں میں مدنی انعامات کے ذمہ داران بھی شرکت فرمائیں۔

﴿6﴾ مجلس مدنی انعامات کے بینرز (Panaflex) پرنٹ کروا کر اجتماعات (ہفتہ وار اجتماع، تربیتی اجتماع، غنخواری اجتماع، مدنی مذاکرہ اجتماع، سحری اجتماع وغیرہ) اور مدنی مشوروں میں نمایاں جگہ پر آویزاں کریں۔ بینرز کی عبارت اس طرح ہونی چاہئے: (تیار شدہ بینر مدنی انعامات کی ویب سائٹ www.madaniinamat.net سے باآسانی حاصل کیا جاسکتا ہے)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

مجلس مدنی انعامات

مدنی انعامات و مستقل قفلِ مدینہ، نقلی روزوں کی مدنی تحریک، آدھ پون، ایک روٹی کی مدنی

تحریک اور 12 روزہ مدنی کورس کے سلسلے میں یہاں رابطہ فرمائیں۔

﴿7﴾ اس مقام (جہاں بینر لگا ہو) پر مجلس مدنی انعامات کے ذمہ داران کا ہونا ضروری ہے، جو مدنی انعامات کے بارے میں اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کر کے عمل پر آمادہ کریں اور مدنی انعامات کے رسائل پیش کریں۔ ﴿8﴾ رمضان المبارک میں دورانِ اعتکاف (پورماہ رمضان/آخری عشرہ) بھی یہی ترکیب کریں۔ دارالافتاء اہلسنت سے شرعی رہنمائی کے بعد اجتماع گاہ اور اعتکاف والی مسجد میں 72 مدنی انعامات کے پینا فلکس بینر (Penaflex) لگائیں۔

﴿7﴾ مدنی انعامات کے ذمہ داران کو چاہیے کہ خصوصیت کے ساتھ ہر سطح کے مدنی مشوروں، ہفتہ وار اجتماع اور دیگر اجتماعات میں فکرِ مدینہ کے حلقوں کی مضبوط ترکیب بنائیں۔

﴿8﴾ تمام ذمہ داران اپنے پاس مدنی بیگ ضرور رکھیں اور اپنی ذاتی رقم سے ماہانہ مدنی انعامات کے کم از کم 26 رسائل اور کچھ نہ کچھ قفلِ مدینہ پیڈ قفلِ مدینہ کارڈ کا خود بھی لنگر کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔

﴿9﴾ مدنی انعامات کے ذمہ داران ہفتہ وار اور دیگر اجتماعات اور مدنی مشوروں وغیرہ میں سامانِ مدنی انعامات کی دستیابی کی ترکیب مکتبۃ المدینہ کے ذریعہ بنائیں۔

﴿10﴾ مدنی انعامات کے ذمہ داران رضائے ربِّ الانام والے مدنی انعام (یعنی عطار کا دوست/پیارا/منظور نظر/محبوب اور مستقل قفلِ مدینہ) کے نفاذ کو اولین ترجیح دیں اور اس کے لئے تمام ذمہ داران کی فہرست بنائی جائے کہ وہ کون سی سعادت پارے ہیں یعنی عطار کا دوست/پیارا/منظور نظر/محبوب اور مستقل قفلِ مدینہ میں ممتاز، بہتر، مناسب۔

﴿11﴾ 12 روزہ مدنی کورس اور اس کا ہدف:

مدنی انعامات کے ذمہ داران ہر سطح کے ذمہ داران پر (نئے اور داڑھی مندوں کے علاوہ) انفرادی کوشش کر کے 12 روزہ مدنی کورس جلد از جلد کروائیں۔ **ہدف:** (12 روزہ مدنی کورس کا بیسٹ سطح پر ہو، جس میں شرکاء کی تعداد کم از کم 30 ہو) **مدینہ:** 12 روزہ مدنی کورس کرنے والے 12 کا مدنی قافلہ بھی شمار کیا جائے گا۔

﴿12﴾ متعلقہ رکن شوریٰ اور نگران کی اجازت سے وقتاً فوقتاً نئے پُرانے اسلامی بھائیوں کے 2، 4 اور 26 گھنٹے کے تربیتی اجتماع کی ترکیب کرتے رہیں تاکہ پرانے اسلامی بھائیوں کی یاد دہانی اور نئے اسلامی بھائیوں کی تربیت کا سامان ہوتا رہے۔

﴿13﴾ **یوم قفل مدینہ:** امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف کو تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو یوم قفل مدینہ منانے کی ترغیب ہے۔ مدنی انعامات کے ذمہ دار خصوصیت کے ساتھ یوم قفل مدینہ کے اجتماعات کی دھومیں چلائیں، مکتبہ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ”**خاموش شہزادہ**“ پڑھیں، پڑھوائیں اور بروقت اس کی کارکردگی بھی جمع کروائیں۔ (مزید معلومات کیلئے یوم قفل مدینہ پمفلٹ کا مطالعہ کیجئے)

﴿14﴾ **25 ویں اور 26 ویں:** مدنی انعامات کے ذمہ داران، ہر مدنی ماہ کی 25 تاریخ کو ”عُرسِ امام اہلسنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ“ اور 26 تاریخ کو ”یوم ولادتِ امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ“ دھوم دھام سے منانے کا اہتمام کریں۔ (25 ویں اور 26 ویں منانے کی معلومات کیلئے 25 ویں اور 26 ویں کی بہاریں“ پمفلٹ کا مطالعہ کیجئے)

﴿15﴾ نفلی روزوں کی مدنی تحریک اور آدھ، پون، ایک روٹی کی مدنی تحریک مجلس مدنی انعامات کے سپرد دیں۔ مدنی انعامات کے ذمہ داران، انفرادی کوشش کے ذریعے اسلامی بھائیوں کے نام، موبائل نمبرز، شہر و ملک ان نمبرز پر لکھوائیں۔

نفلی روزوں کی مدنی تحریک کا نمبر: 0312-5921226 / آدھ، پون، ایک روٹی کی مدنی تحریک کا نمبر: 0313-1139267

﴿16﴾ مدنی انعامات کے ذمہ داران کو چاہیے کہ مکتب مدنی انعامات کی طرف سے روزانہ فکر مدینہ کا میسج (Sms) آتا ہے، صرف اُس کو ہی بھرپور طریقے سے عام کریں، اپنی طرف سے فکر مدینہ کا میسج (Sms) نہ بنائیں نہ کسی کو بھیجیں۔

﴿17﴾ ذمہ داران کی تقرری کی ترکیب:

مدنی انعامات کے ذمہ داران کا تقرری ذیلی حلقہ تامر کی مجلس شوریٰ ہے۔ مختلف شعبہ جات میں بھی نگران کا مدینہ کی اجازت سے مدنی انعامات ذمہ داران مقرر کئے جائیں۔ مثلاً مجلس فیضانِ مَرشد، مجلس شعبہ تعلیم، مجلس مدرسۃ المدینہ للبنین، مجلس جامعۃ المدینہ للبنین وغیرہ۔ شعبہ جات میں مدنی انعامات کے اہداف ملک سطح کے ذمہ دار متعلقہ شعبہ ذمہ دار سے مشاورت کے بعد طے فرمائیں۔  کا بیانات ذمہ داران پاکستان سطح کی مجلس کے رکن ہیں، اسی مجلس میں سے ایک مدنی انعامات، ایک مدنی قافلہ

اور ایک کارکردگی ذمہ دار ہوں گے ❀ مختلف ممالک میں ملکی سطح پر مجلس ہوگی، جو رکن شوریٰ کے تحت ہوگی۔ (بیرون ملک والے ذمہ داران، متعلقہ رکن شوریٰ کی اجازت کے بغیر ذمہ دار نہ بنائیں) ❀ یاد رہے! کسی بھی سطح کے اراکین و نگران کی تقرری کے لئے متعلقہ سطح کے نگران کی اجازت ضروری ہے۔ (امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ ہر مجلس میں مدنی اسلامی بھائی کے ہونے کو پسند فرماتے ہیں)

﴿18﴾ مدنی مشوروں کی تاریخیں و مدنی پھول:

#	تاریخ	مدنی مشورہ لینے والے	سطح	شرکاء	مدنی پھول
1	19	رکن شوریٰ / نگران مجلس	ملک	کابینات ذمہ داران	ذاتی عمل، جدول، کارکردگی، تقریر و تحفظ، اجتماعات، 12 روزہ مدنی کورس، یوم نقل مدینہ، 25 ویں، 26 ویں، نقلی روزوں کی مدنی تحریک
2	21	نگران کابینات / کابینات ذمہ دار	کابینات	کابینہ ذمہ داران	//
3	23	نگران کابینہ / کابینہ ذمہ دار	کابینہ	ڈویژن ذمہ داران	//
4	25	نگران ڈویژن مشاورت / ڈویژن ذمہ دار	ڈویژن	علاقہ / شہر ذمہ داران	//
5	26	نگران علاقائی مشاورت / علاقائی ذمہ دار	علاقہ	ذیلی حلقہ و حلقہ ذمہ داران	//

وضاحت: رکن شوریٰ / نگران مجلس، پاکستان سطح کی مجلس کا ہر ماہ مدنی مشورہ فرمائیں، ایک ماہ بذریعہ انٹرنیٹ اور ایک ماہ بالمشافہ

﴿19﴾ کارکردگی جمع کروانے کی تاریخیں:

❀ حلقہ: 1 ❀ علاقہ: 2 ❀ ڈویژن: 3 ❀ کابینہ: 5 ❀ کابینات: 6 ❀ ملک: 7

﴿20﴾ مدنی مشوروں کی کثرت سے بچنے کے لیے مقرر کردہ سطح کے علاوہ کسی اور سطح کا مدنی مشورہ لینے کے لیے متعلقہ نگران سے اجازت ضروری ہے۔ ❀ جب بڑی سطح کے ذمہ دار دیگر سطح کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ کر لیں تو اس ماہ ان کا ماہانہ مدنی مشورہ نہیں ہوگا (مثلاً کابینہ ذمہ دار نگران کابینہ کی اجازت سے ڈویژن ذمہ داران کے ساتھ ساتھ علاقہ ذمہ داران کا بھی مدنی مشورہ لیا تو اب ڈویژن ذمہ داران اس ماہ علاقہ ذمہ داران کا مدنی مشورہ نہیں کریں گے) ❀ اسی طرح جس ماہ نگران کابینہ / مشاورت شعبے کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمائیں گے، اس ماہ بھی شعبہ ذمہ داران ماہانہ مدنی مشورہ نہیں کریں گے۔ (شعبے کے مدنی کام کو مضبوط اور منظم

کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے نگران مشاورت سے شعبے کے اسلامی بھائیوں کا مشورہ کروانا مفید ہے۔)

﴿21﴾ متعلقہ نگران مشاورت سے مربوط رہیں۔ انھیں اپنی کارکردگی سے آگاہ رکھیں اور ان سے مشورہ کرتے رہیں۔ جو نگران سے جتنا زیادہ مربوط رہے گا وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔ اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّ وَجَلَّ۔

﴿22﴾ پاکستان/ بیرون ملک سطح کے ذمہ دار ہر مدنی ماہ کی 7 تاریخ تک کارکردگی پاکستان انتظامی کابینہ/ مجلس بیرون ملک مکتب اور متعلقہ رکن شوریٰ کو میل کر دیں۔ (یاد رہے! کارکردگی مدنی مشورے سے مشروط نہیں، اگر کسی وجہ سے مدنی مشورہ نہ ہو سکے تب بھی مقررہ تاریخ پر اپنے نگران کو کارکردگی پیش کر دیں۔)

﴿23﴾ ہر ذمہ دار ہر ماہ کا پیشگی جدول مدنی ماہ کی 19 تاریخ تک اپنے نگران (نگران مشاورت/ نگران مجلس) سے منظور کروائے، پھر اس کے مطابق پیشگی اطلاع کے ساتھ اپنے جدول پر عمل کرے اور مہینہ مکمل ہونے کے بعد 3 تاریخ تک کارکردگی جدول اپنے نگران (نگران مشاورت/ نگران مجلس) کو پیش کرے۔

﴿24﴾ یاد رہے کہ متعلقہ رکن شوریٰ کی مشاورت سے ضرورتاً ان مدنی پھولوں میں تبدیلی کی جاسکتی ہے۔

﴿25﴾ حدیث پاک میں ہے ”تَهَادُوا وَتَحَابُّوا“، یعنی ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ (مؤطا امام مالک، ج 2، ص ۴۰۷، رقم ۱۷۳۱) پر عمل کی نیت سے ذمہ داران شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رَضَوِی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ الْعَالِیَہ اور مکتبۃ المدینہ کی دیگر مطبوعہ کتب و رسائل و VCDs وغیرہ کی ذاتی طور پر حسب استطاعت اور تغیر اسلامی بھائیوں سے ترکیب بنا کر لنگر (مفت تقسیم کرنے) کی ترکیب کرتے رہیں اور فروخت بھی کریں نیز خوشی و غمی (شادی، فونگی، چہلم و عرس وغیرہ)، تکلیف و آزمائش (بے روزگاری، بے اولادی، ناچاقی اور بیماری وغیرہ) کے مواقع پر لنگر رسائل کی ترغیب دلا نا مفید ہے۔

﴿26﴾ ذمہ داران اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لئے مندرجہ ذیل امور کو اپنانے کی کوشش فرمائیں:

✽ فرض علوم سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ فرض علوم سیکھنے کے لیے کتب امیر اہلسنت، بہار شریعت، فتاویٰ رضویہ، احیاء العلوم وغیرہ کے مطالعہ کی عادت بنائیں۔

✽ مدنی حلیے، واڑھی، زلفیں، سر پر سبز بنز عمامہ شریف (سبز گہرا یعنی ڈارک نہ ہو) کلی والا سفید گرتا سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک لمبا، آستینیں ایک بالشت چوڑی، سینے پر دل کی جانب والی جیب میں ٹمیاں مسواک، پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے اوپر (سر پر سفید چادر اور پردے میں پردہ کرنے کیلئے مدنی انعامات پُعل کرتے ہوئے کبھی چادر بھی ساتھ رہے تو مدینہ مدینہ) کی پابندی کریں۔

✽ عملی طور پر مدنی کاموں میں شریک ہوں، روزانہ کم از کم 2 گھنٹے مدنی کاموں میں صرف کیجئے مثلاً مدنی قافلے میں سفر اور

مدنی انعامات پر عمل کے لئے روزانہ فکرِ مدینہ کا ذہن دینے کے لیے کم از کم 12 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ بالغان، بعدِ فجر مدنی حلقہ، صدائے مدینہ، چوک درس، پابندی وقت کے ساتھ اول تا آخر ہفتہ وار اور دیگر اجتماعات میں شرکت وغیرہ۔

✽ پلاننگ فکرِ مدینہ کرتے ہوئے عطار کا دوست، پیارا، منظورِ نظر اور محبوب عطار بننے کی سعی جاری رکھیے، استقامت پانے کے لئے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنالیجئے نیز ضروری گفتگو کم لفظوں میں کچھ اشارے میں اور کچھ لکھ کر کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ نگاہیں جھکا کر رکھنے کی ترکیب بنائیے۔ (اس کے لئے 12 روزہ مدنی کورس بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا)

✽ مرکزی مجلس شوریٰ، کابینہ اور اپنے شعبے کے مدنی مشوروں کے ملنے والے مدنی پھولوں کا خود بھی مطالعہ کیجئے اور متعلقہ تمام ذمہ داران تک بروقت پہنچانے کی ترکیب بنائیے۔

✽ اراکینِ مجلس، مدنی انعام نمبر 47 پر عمل کرتے ہوئے روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھنے کی ترکیب بنائیں نیز ہفتہ وار Live مدنی مذاکرہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر ریکارڈڈ مدنی مذاکروں اور مدنی چینل کے سلسلوں کو اہتمام کے ساتھ دیکھنے کی مدنی التجاء ہے۔

✽ دورانِ مدنی کام و ملاقات امیرِ اہلسنت، بانیِ دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطار یہ میں مرید / طالب بنانے کی کوشش کرتے رہیں، مرید / طالب ہو جائیں تو مجلس مکتوبات و تعویذات عطار یہ سے مکتوب کی ترکیب اور شجرہ قادریہ، رضویہ، ضیائیہ، عطار یہ حاصل کرنے اور روزانہ پڑھنے کی ترغیب بھی دلائیں۔

✽ مدنی کام استقامت کے ساتھ کرنے کے لئے بالخصوص مدنی انعام نمبر 24 اور 26 کے عامل بن جائیں ✽ مدنی انعام نمبر 24: کیا آج آپ نے مرکزی مجلس شوریٰ، کابینات، مشاورتیں و دیگر تمام مجالس جس کے بھی آپ ماتحت ہیں، ان کی (شریعت کے دائرے میں رہ کر) اطاعت فرمائی۔ ✽ مدنی انعام نمبر 26: کسی ذمہ دار (یا عام اسلامی بھائی) سے برائی صادر ہو جائے اور اصلاح کی ضرورت محسوس ہو تو تحریری طور پر یا براہِ راست مل کر (دونوں صورتوں میں نرمی کے ساتھ) سمجھانے کی کوشش فرمائی یا معاذ اللہ عزَّوَجَلَّ بلا اجازتِ شرعی کسی اور پر اظہار کر کے غیبت کا گناہ کبیرہ کر بیٹھے؟

مرکزی مجلس شوریٰ ﴿دعوتِ اسلامی﴾

مدنی مقصد: مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اِنْ شَاءَ اللہ عزَّوَجَلَّ

تاریخِ اجراء (اپ ڈیٹ): ۱۶ ربیع الاول ۱۴۳۶ھ، 7 جنوری 2015ء